

21 جنوری 2019

## رغبت رکھنے والے فائر فائٹرز اب جارج بچ کاک برسری کے لیے درخواست دے سکتے ہیں

برامپٹن، آن – اگر آپ یا آپ کا جاننے والا کوئی شخص ایک فائر فائٹرز کے طور پر اپنا کیریئر بنانا چاہتا ہو، تو یہ بات جاننا آپ کے لیے پرجوش ہو سکتی ہے کہ بعد از ثانوی تعلیم کی فیسوں کو پورا کرنے کے لیے ایک برسری دستیاب ہے۔

جارج بچ کاک میموریل اینڈومنٹ فنڈ، جسے عام طور پر جارج بچ کاک برسری کے نام سے جانا جاتا ہے، کے لیے درخواست کا دورانیہ 21 جنوری 2019 سے کھلا ہے۔

برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز ہر سال فائر سروسز میں کیریئر بنانے میں دلچسپی رکھنے والے طلباء کے لیے جارج بچ کاک برسری کی پیشکش کرتی ہے۔ کامیاب درخواست دہندگان اپنی بعد از ثانوی تعلیمی فیسوں کے لیے برسری کو استعمال کر سکتے ہیں۔

### شرائط

درخواست دہندگان کو لازمی طور پر برامپٹن میں موجود کینیڈا کا باشندے (یا کینیڈا میں کام کرنے کے قابل) ہونا چاہیے، جو فائر سروسز سے تعلق رکھنے والے کسی اونٹاریو پوسٹ سیکنڈری ڈپلومہ کے حصول کی کوشش کر رہے ہوں۔

### کاروائی

درخواست فارمز [www.bramptonfire.com](http://www.bramptonfire.com) پر آن لائن دستیاب ہیں اور [firelife@brampton.ca](mailto:firelife@brampton.ca) پر بھیجے جانے چاہیں۔ درخواست کا دورانیہ 30 اپریل 2019 کو ختم ہو جائے گا۔

شارٹ لسٹ کیے گئے امیدواروں کا انٹرویو لیا جائے گا اور ایک درخواست دہندہ کو کورس میں اندراج کروانے پر \$1,000 کی برسری کے لیے منتخب کیا جائے گا۔

برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز نے آنجہانی جارج بچ کاک، جنہوں نے 33 سال برامپٹن فائر سروسز کے لیے خدمات انجام دیں، کے اعزاز میں 2014 میں جارج بچ کاک میموریل اینڈومنٹ فنڈ قائم کیا ہے۔ انہوں نے فائر/لائف سیفٹی ایجوکیشن ڈویژن کے قیام میں کلیدی کردار ادا کیا، جو برامپٹن کے ہزاروں شہریوں کو آگ سے حفاظت کی تعلیم فراہم کرنے میں کارآمد رہا ہے۔ انہوں نے دوسرے لوگوں کو فائر سروسز میں کیریئر شروع کرنے پر غور کرنے کی ترغیب دی اور خوب حوصلہ افزائی کی۔

مزید معلومات کے لیے [www.bramptonfire.com](http://www.bramptonfire.com) ملاحظہ کریں یا [firelife@brampton.ca](mailto:firelife@brampton.ca) پر ای میل کریں۔

### اقتباسات

"برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کو فائر سروسز میں ایک جدت پسند رہنما کے طور پر مانا جاتا ہے، جو برامپٹن کے شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کرنے میں مدد دینے کے لیے نئی تربیتیں، حکمت عملیاں اور ٹیکنالوجی سامنے لا رہا ہے۔ میں تمام اہل شہریوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ اینڈومنٹ کے لیے درخواست دیں اور اس زبردست ٹیم کا حصہ بنیں۔"

- میئر پیٹرک براؤن

"2014 سے یہ برسری آگ سے بچاؤ اور زندگی کی حفاظت کی تعلیم کے لیے جارج کی یاد میں وقف شدہ ہے اور اس کے بے مثال جذبے کے اعزاز میں پیش کی جا رہی ہے۔ ہم غیر معمولی خدمات کی اپنی روایت کو جاری رکھنے کے لیے فائر فائٹرز کی اگلی نسل کو معاونت فراہم کرنے کے لیے پرجوش ہیں۔"

- برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز چیف بل بوانز

"برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کا حصہ بننا لوگوں کو اپنی کمیونٹی میں فرق پیدا کرنے، ایک متحد ٹیم کا حصہ بننے، زبردست فوائد اور مزید بہت کچھ حاصل کرنے کا موقع دیتا ہے۔ ہم اہل رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ جارج ہج کاک میموریل اینڈوومنٹ فنڈ کے لیے درخواست دیں۔"

- کونسلر رووینا سیٹوس، چیئر، کمیونٹی سروسز

-30-

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں ٹوئٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر فالو کریں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

**میڈیا کنٹیکٹ**

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

[Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca) | 905-874-3426